

عزیزی والدین یا سرپرست:

بحالی ایکٹ کے جز 504 کے تحت آپکا بچہ اسکول میں صحت کی خدمات اور / یا طبی سہولیات موصول کرنے کا اہل ہو سکتا ہے۔ یہ خدمات صحت کی ضروریات کے حامل ایک طالب علم کو اسکول میں مکمل طور پر حصہ لینے میں مدد کرتی ہیں۔ مثلاً، ایک طبی صورتِ حال کے حامل طالب علم کو اسکول میں دوا دی جاسکتی ہے۔ وہ طلبا جنہیں دیکھنے یا سننے میں دشواری ہے انہیں بلیک بورڈ کے نزدیک بٹھایا جاسکتا ہے۔

نیویارک شہر محکمہ تعلیم کے لیے ہر تعلیمی سال میں خدمات اور / یا سہولیات کی تمام درخواستوں کا جائزہ لینا لازمی ہے۔ جائزہ اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ آیا آپ کے بچے کو اسکول میں خدمات اور / یا سہولیات کی ضرورت ہے، اور یہ اسکول کو ماضی کی خدمات اور / یا سہولیات میں تبدیلیوں سے آگاہ کرتا ہے۔ یہ اسکو بھی یقینی بناتا ہے کہ آپکا بچہ موزوں خدمات اور / یا سہولیات کو موصول کرے۔

متعدد والدین اپنے بچوں کے طبی معائنوں کو سال کے اس وقت میں شیڈول کرتے ہیں۔ ہم آپکی آنے والے تعلیمی سال کے لیے تیار ہونے کی بھی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ آپ کے بچے کے اگلے معائنے میں اپنے بچے کے طبی نگہداشت کے پیشہ ور سے منسلک سہولیات کے فارمز مکمل کرنے کی گزارش کریں۔ دوا کے فارم کے بالائی بائیں کونے پر ایک چھوٹی اور جدید تصویر لگائیں۔ اس سے اسکول کو آپکے بچے کی درست شناخت کرنے میں مدد ملے گی۔

والدین کو مکمل کردہ طبی فارمز کو **1 جون، 2020 تک،** یا جلد از جلد مکمل کرنا چاہیئے تاکہ آپکا بچہ منظور کردہ خدمات تعلیمی سال 2020-2021 کے آغاز سے موصول کرے۔

#### ذیابیطس کی دوائیاں دینے کا فارم

ذیل پر فیکس کریں:

8945-396-347 (برونکس اور مین ہیٹن)

8933-396-347 (بروکلن اور اسٹیٹن آئنڈ)

8932-396-347 (کوننز)

یا

ذیل پر بذریعہ ڈاک بھیجیں:

Attn: DMAF Coordinator

New York City DOHMH

Office of School Health

28th Street, CN-25 09-42

Queens, New York 11101-4714

#### تمام دیگر دوائیاں دینے کے فارمز کو:

ذیل پر بذریعہ ڈاک بھیجیں:

Attn: Director of Nursing

New York City DOHMH

Office of School Health

28th Street, CN-25 09-42

Queens, New York 11101-4714

یا

اس برو کو ای میل کریں جہاں آپ کا بچہ اسکول میں شرکت کرے گا:

BronxMAF@schools.nyc.gov

BrooklynMAF@schools.nyc.gov

ManhattanMAF@schools.nyc.gov

QueensMAF@schools.nyc.gov

StatenIslandMAF@schools.nyc.gov

#### تعلیمی سہولیات کے فارمز

تعلیمی اور اسکول پر مبنی دیگر سہولیات کی درخواست کے فارمز (والدین کی درخواست کا فارم اور طبی سہولیات کی درخواست کے فارم) کو تعلیمی سال کے آغاز پر آپ کے اسکول کے 504 رابطہ کار کے پاس جمع کروایا جانا چاہیئے۔